



## ویمنز سیریز: انگلینڈ نے دوسرے ایک روزہ میچ میں پاکستان کو 127 رنز سے شکست دے دی

لاہور، 12 دسمبر 2019ء:

کنرارا اول، کو الالمپور میں کھیلے جانے والے میچ میں انگلینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم نے دوسرے ایک روزہ میچ میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کو 127 رنز سے شکست دے کر تین میچوں کی سیریز میں 0-2 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے۔ مہمان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے بیٹر نتالی سیور کی ناقابل شکست سنچری کی بدولت مقررہ پچاس اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 327 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم 200 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔

انگلینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان بیتھر نائٹ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو مہمان ٹیم کی اوپنرز 67 کے مجموعی اسکور پر پویلین واپس لوٹ گئیں۔ گذشتہ میچ میں سنچریاں اسکور کرنے والی ڈینی وائٹ اور ٹیمی بیماؤنٹ دوسرے میچ میں بالترتیب 6 اور 21 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئیں تاہم اس موقع پر کپتان بیتھر نائٹ نے ذمہ دارانہ کھیل کا مظاہرہ کیا اور نتالی سیور کے ہمراہ 84 رنز کی شراکت قائم کر کے مہمان ٹیم کو میچ میں واپس لے آئیں۔ بیتھر نائٹ 86 رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئیں، امی جونز کے جلد آؤٹ ہونے کے بعد نتالی سیور اور فرین ولسن نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ دونوں بیٹرز نے 85 گیندوں پر 146 رنز کی برق رفتار شراکت قائم کر کے میچ میں انگلینڈ ویمنز ٹیم کی گرفت مضبوط کر دی۔ نتالی سیور نے 12 چوکوں کی مدد سے سنچری اسکور کرتے ہوئے ناقابل شکست 100 رنز بنائے۔ فرین ولسن 49 گیندوں پر 8 چوکوں اور 3 چھکوں کی بدولت 85 رنز کی دھواں دھار انگیز کھیل کر ناٹ آؤٹ رہیں۔ قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی جانب سے ندا ڈار نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔

جواب میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی بیٹرز انگیز میں طویل شراکت قائم کرنے میں ناکام رہیں۔ 328 رنز کے تعاقب میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی پہلی وکٹ 24 رنز پر گری جب سدرہ امین 12 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئیں۔ دوسری وکٹ کے لیے ناہیدہ خان اور جویریہ خان کے درمیان 47 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ ناہیدہ خان 40 اور جویریہ خان 26 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔ کپتان بسمہ معروف نے ذمہ دارانہ کھیل کا مظاہرہ کیا تاہم اس دوران کریز کے

دوسرے اینڈ پر کسی بیٹر نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ بسمہ معروف نے نصف سنچری اسکور کی۔ وہ 64 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔ انگلینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم کی جانب سے شرب سول، سارہ گلین، ہیتھر نائٹ اور صوفی نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔

میچ میں 86 رنز بنائے اور 2 وکٹیں حاصل کرنے پر کپتان انگلینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم ہیتھر نائٹ کو پلیئر آف دی میچ کا انعام دیا گیا۔

دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا تیسرا میچ 14 دسمبر کو کنرار اکیڈمی اول میں کھیلا جائے گا۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)